

اگلے ہفتے برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا

برامپٹن، آن (17 اکتوبر 2019) - برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل پر ریجن آف پیل کے پانی کے بڑے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے سلسلے میں اگلے ہفتہ بروز پیر مورخہ 21 اکتوبر تا بروز جمعہ مورخہ 25 اکتوبر تک شام 6 بجے سے ٹرمینل کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا۔

مسافر خواتین و حضرات توجہ فرمائیں کہ ٹرمینل کے اندر موجود تمام بسوں کو اور سٹیلز ایونیو کے کناروں پر رُکنے والی بسوں کو بھی وہاں سے ہٹا کر قریبی روڈ پر دستیاب کیا جائے گا۔ جبکہ ہورونٹیئریو سٹریٹ کے کناروں پر موجود تمام بس اسٹاپ بدستور کھلے رہیں گے۔

بندش کی وجہ سے درج ذیل روٹس متاثر ہوں گے:

11/11A ایسٹ ہاؤنڈ، 54، 199 اور 511/511A/511C ایسٹ ہاؤنڈ

- عارضی بس اسٹاپ لوبلاز (Loblaws) کے نزدیک اسٹاپ سٹیل ایونیو کی مغربی جانب میں موجود ہو گا
- مسافروں کو مین اسٹریٹ اور سٹیلز ایونیو سے لازمی طور پر کراس کرنا ہو گا

2 نارتھ ہاؤنڈ اور 502 نارتھ ہاؤنڈ

- عارضی بس اسٹاپ مین اسٹریٹ کی مشرقی جانب بنایا جائے گا، جو کہ برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل کے بالکل سامنے ہے
- مسافروں کو مین اسٹریٹ اور سٹیلز ایونیو سے لازمی طور پر کراس کرنا ہو گا

8 اور 52

- عارضی بس اسٹاپ، مین اسٹریٹ پر بس کے لیے مختص مقام پر بنایا جائے گا

11/11D، 4/4A/104، 3/3A ویسٹ ہاؤنڈ، 53، 56، 57 اور 511/511C ویسٹ ہاؤنڈ

- عارضی بس اسٹاپ، برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل کی مغربی جانب میں سٹیلز ایونیو کی شمالی جانب میں بنایا جائے گا جو کہ اوشینز فریش فوڈ مارکیٹ کی پارکنگ کے بالکل سامنے واقع ہے۔

تعمیری کاموں کے دوران ٹرمینل کے اندر موجود کسٹمر سروس کھلی رہے گی۔

ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ بندش اور متبادل راستوں کے بارے میں تمام تفصیلات www.bramptontransit.com پر دستیاب ہے۔ اپ ٹیٹس کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام @bramptontransit پر فالو کریں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca | 905-874-3426